

PRESS RELEASE

For immediate release

September 21, 2021

کیپٹل مارکیٹ میں سرمائے کی تشکیل؛

ایس ای سی پی نے سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنیز کے لئے ریگولیٹری فریم متعارف کروادیا

اسلام آباد (21 ستمبر 2021): سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے پبلک آفرنگ ریگولیشنز، 2017 میں ترامیم کرتے ہوئے، سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنیز (SPAC) کے ریگولیٹری فریم ورک متعارف کروادیا ہے۔

پاکستان کی کیپٹل مارکیٹ میں سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنیز کے آنے سے مالیاتی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا، سٹاک مارکیٹ میں نئی لسٹنگ کی حوصلہ افزائی ہوگی اور بڑی کمپنیوں کے انضمام/مرجر کے لیے سرمایہ کے حصول میں معاونت ملے گی جبکہ سرمایہ کاروں/عوام الناس کو تجربہ کار مالیاتی ماہرین اور فنڈ مینجرز کے ساتھ مل کر کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے اور کمپنیوں کے حصص کے ویلیو میں اضافہ سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔

سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنی، (SPAC) ماہرین کے گروپ پر مشتمل کمپنی ہوتی ہے جو کہ مارکیٹ میں ایسی کمپنیوں کی نشاندہی کرتے ہیں جن کو خریداجا سکے۔ SPAC کمپنی کو خریدنے یا اس میں حصہ ڈالنے کے لیے ابتدائی عوامی پیشکش (آئی پی او) کے ذریعے سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ سپا کس چونکہ خود سٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہوتی ہے، لہذا حاصل کی گئی کمپنی بھی سٹاک مارکیٹ میں لسٹ ہو جاتی ہے۔ سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنی کا تصور کئی ترقی یافتہ ممالک جیسے کہ امریکہ، کینیڈا، ملائیشیا وغیرہ میں یہ کمپنیاں کامیابی سے کام کر رہی ہیں۔

ایس ای سی پی کے مجوزہ ریگولیٹری فریم ورک کے تحت، سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنی ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوگی جس کا کم از کم ادا شدہ سرمایہ ایک کروڑ (دس ملین) روپے ہوگا۔ سپیشل پرنسپلز ایکویزیشن کمپنی کے پروموترز/سپانسرز، ڈائریکٹرز اور ای او متعین کردہ اہلیت کے معیار پر پورا اترتے ہوں گے۔ سٹیک ہولڈرز کے تحفظ کے پیش نظر، SPAC پبلک آفرنگ کے ذریعے جمع کئے گئے فنڈز کو

مخصوص اسکرو اکاؤنٹ میں رکھ گی جس کی تحویل مقرر کردہ تھرڈ پارٹی کے پاس ہوگی۔ ان فنڈز کو صرف اور صرف سرمایہ کاروں کو بتائی گئی کمپنی کے حصول کے لیے تین سال کی متعین مدت کے اندر استعمال کیا جائے گا۔

اسکرو اکاؤنٹ میں جمع شدہ فنڈز صرف منظور شدہ اسکیموں میں سرمایہ کاری کے لئے استعمال کیے جاسکیں گے۔ کسی بھی ایکویزیشن اور مارجر کو شئیر ہولڈر خصوصی قرارداد کے ذریعے منظور کریں گے۔ مارجر کے بعد، مجوزہ ادارہ خود بہ خود مارکیٹ میں لسٹ ہو جائے گا جبکہ ایکویزیشن کی صورت میں اسے لسٹ کروانا پڑے گا۔ شئیر ہولڈر جو کہ کمپنی کی جانب سے کئے گئے کسی مارجر یا ایکویزیشن کی منظوری نہیں دیں گے، طے شدہ طریق کار کے مطابق اسکرو اکاؤنٹ میں سے اپنا سرمایہ واپس لینے کے مجاز ہوں گے۔

ایس پی اے سی سے متعلق پبلک آفرنگ ریگولیشنز، 2017 میں ترامیم کا مسودہ عوامی رائے عامہ کے لئے کمیشن کی ویب سائٹ پر فراہم کر دیا گیا ہے۔ <https://www.secp.gov.pk/document/s-r-o-1214-i-2021-regulatory-framework-for-spac/?wpdmdl=43389&refresh=6149bac9d7f351632221897>